

برائے فوری اجراء

## سٹی نے دنیا کو برامپٹن میں لانے کی حکمت عملی کا آغاز کر دیا

برامپٹن، آن (29 مئی 2019) - آج سٹی آف برامپٹن کے اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر آفس نے عالمگیر سطح پر معاشی روابط قائم کر کے برامپٹن میں ملازمتوں اور ترقی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک مرحلہ وار منصوبہ کی تفصیلات سے پردہ کشائی کی ہے۔ اس کا مقصد دنیا کو یہ بتانا ہے کہ برامپٹن مواقع کا شہر ہے۔

برامپٹن کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ (FDI) کی حکمت عملی کے تحت ایسے اثاثے بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جو سرمایہ کاری کو اپنی جانب متوجہ کریں اور سٹی کے کئی کلیدی معاشی شعبوں کی موجودہ تقویتوں پر سرمایہ کاری ہو سکے - مثلاً ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، ہیلتھ اینڈ سائنسز اور اختراع و ٹیکنالوجی جیسے شعبے۔

سٹی کے FDI منصوبہ کی توجہ کئی مختلف جغرافیائی علاقوں پر مرکوز ہے، جس کی وسعت معاشی طور پر زیادہ مماثلت کی مارکیٹوں مثلاً امریکہ اور مغربی یورپ سے لے کر دور رس امکانات کے حامل چین تک ہے۔

برامپٹن کے پاس دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ایک پرکشش کہانی موجود ہے۔ ٹرانسپورٹ کے بڑے نیٹ ورکس کے قریب موجود اپنے بہترین محل وقوع کے علاوہ، کاروباری اداروں کو ترغیب دینے کے لیے سٹی اپنے اثاثوں کو بھی ترقی دے رہا ہے۔ یہاں پر ایک نئی **کام کی مشترکہ جگہ** یعنی **سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ** موجود ہے اور ریٹرنس یونیورسٹی، الگومہ یونیورسٹی اور ریٹرنس کالج کے ساتھ نئے بعد از ثانوی مواقع بھی موجود ہیں۔

اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر آفس نے 28 مئی کو برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کے ساتھ ایک ناشتے کی میزبانی کی جس میں FDI کی سوچ اور نیو ایمپیسٹر پروگرام کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ اس پروگرام میں کئی ایسے مقامی کاروباری افراد بھی شرکت کر رہے ہیں جو سٹی کی FDI حکمت عملی کے ہم خیال ہیں اور وہ مقامی کاروباری اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ برامپٹن کی اعلیٰ اقدار کو عالمی سطح کے شراکت داروں تک پہنچایا جائے۔

اس سال کے اوائل میں، برامپٹن سٹی کونسل نے \$1.875 ملین کے آپریٹنگ کیپیٹل بجٹ کی منظوری دی ہے جس کو FDI کی حکمت عملی اور کام کے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اگلے اقدامات کے طور پر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر آفس اپنی مارکیٹنگ کی مہم کو فروغ دے گا اور دور حاضر کے FDI ماحول میں سٹی کی اقدار کی سرمایہ کاروں پر تشریح کرنے کے لیے ماہرین کی مدد لے گا اور اپنی حکمت عملی کے نفاذ کے منصوبے کو فروغ دے گا۔

### اقتباسات

"برامپٹن میں اس حکمت عملی کا آغاز کر کے میں بے حد پرجوش محسوس کر رہا ہوں۔ یہ شہر کے مستقبل پر ایک سرمایہ کاری ہے۔ ہم اعلیٰ پائے کی صنعتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ترقی، وسعت اور سرمایہ کاری کے لیے برامپٹن کا انتخاب کریں تاکہ انہیں اعلیٰ مہارت یافتہ افرادی قوت، مسابقتی فوائد اور عالمی مارکیٹ تک رسائی جیسے ثمرات حاصل ہوں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"عالمی مارکیٹ پلیس میں ایک مضبوط اور اختراعی برانڈ کی حکمت عملی اپنانے کے لیے برامپٹن اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے گا تاکہ اس کی وجہ سے کاروباری اداروں، غیر ملکی سرمایہ کاری اور ملازمتوں کے لیے کشش پیدا کی جائے۔ دور حاضر کی مسابقتی بین الاقوامی سطح پر ہم کلیدی صنعتوں میں اپنا ایک مقام پیدا کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔"

- ریجنل کونسلر گرہیریت سنگھ ڈھلون، چیئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ

رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)